


# خرده فروشی سے متعلق تربیتی رہنما پرچہ

گاہکوں کے سوالات سے نیٹنا  
جرسی سٹی میں پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی



28 جون، 2019 سے سٹی آف جرسی واحد استعمال والے پلاسٹک کے تھیلوں اور ناقابل باز احياء کاغذی تھیلوں پر شہر پیمانہ پابندی عائد کرے گا۔

یہ پابندی ان سبھی خرده فروشوں کو متاثر کرے گی جو ابھی واحد استعمال والے پلاسٹک کے تھیلوں یا ناقابل باز احياء کاغذی تھیلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کریانہ دکان، ریسٹوران، چھوٹی دکانیں، فارمیسیز، کپڑے کی دکانیں، ہارڈ ویئر کی دکانیں، بیئر اور شراب کی دکانیں اور ہر وہ خرده فروش دکان شامل ہے جو فروخت کے وقت گاہکوں کو پلاسٹک کے تھیلے فراہم کرتی ہیں۔

## درج ذیل تربیتی رہنما تھیلے پر پابندی کے بارے میں گاہکوں کے امکانی سوالات کے

**جوابات فراہم کرتا ہے۔** سبھی مجوزہ جوابات کا اطلاق آپ کے کاروبار پر نہیں ہوگا اور آپ اپنے منفرد کاروبار کے لحاظ سے بیان میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔

واحد استعمال والے پلاسٹک کے تھیلے کئی سالوں سے مفت فراہم کیے جا رہے ہیں، لہذا گاہکوں کو طویل عرصے سے موجود توقعات اور عادات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی جس کے نتیجے میں فروخت کے وقت سوالات اور اعتراضات پیدا ہوسکتے ہیں۔

گاہکوں کے سوالات	مجوزہ جوابات
مجھے کیوں مزید پلاسٹک کا تھیلا نہیں مل سکتا؟	جرسی سٹی نے سبھی پلاسٹک کے واحد استعمال والے سبھی تھیلوں پر پابندی لگادی ہے اور اس کا اطلاق جرسی سٹی کے سبھی خرده فروشوں پر ہوتا ہے۔ یہ پابندی واحد استعمال والے پلاسٹک کے تھیلوں کے وجہ سے پیدا ہونے والے کوڑے اور نقصان میں کمی کرکے ماحولیات اور جنگلی حیات کے تحفظ میں مدد کے لیے لگائی گئی ہے۔ اب ہم متبادل تھیلوں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ان میں لاگت زیادہ آتی ہے لہذا ہمیں ان کے لیے تھوڑی قیمت وصول کرنی پڑتی ہے۔ یہ تھیلے دوبارہ قابل استعمال ہیں لہذا یہ قیمت کا صحیح مصرف فراہم کرتے ہیں۔ یا پھر مہربانی کرکے اپنے دوبارہ قابل استعمال تھیلے ساتھ لائیں؛ آپ کے اپنے تھیلے کے استعمال پر کوئی لاگت نہیں ہے۔
کن تھیلوں پر پابندی ہے اور کن کی اجازت ہے؟	پلاسٹک کے تھیلے جن کی دباؤت 2.25 mils سے کم ہے جنہیں کم از کم 125 بار استعمال نہیں کیا جا سکتا اور جن کی صفائی نہیں ہو سکتی ان پر ساتھ ہی کاغذی تھیلے جو 100% قابل باز احياء نہیں ہیں اور جن میں صارف کے استعمال کے بعد کم از کم 40% قابل باز احياء مادہ نہیں ہے، پر پابندی ہے۔ دوبارہ استعمال کے قابل تھیلے جیسے کہ کیپاس، نائلن، اور دیگر سوتی تھیلوں کی اجازت ہے۔
اس پابندی سے درحقیقت کیا فرق پڑے گا؟	نیو جرسی میں ہم سالانہ 4.5 بلین پلاسٹک کے تھیلے استعمال کرتے ہیں اور عام طور پر ہم ہر ایک کو 15 منٹ سے کم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان تھیلوں کے صرف 2-5% کا باز احياء کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے دیگر ممالک اور امریکہ کی دیگر ریاستوں اور شہروں نے اسی طرح کی پابندی لگائی ہے اور وہاں پلاسٹک کے تھیلوں کے کچرے میں ڈرامائی کمی اور ماحولیاتی نتائج میں بہتری آئی ہے۔

# خرده فروشی سے متعلق تربیتی رہنما پرچہ

گاہکوں کے سوالات سے نیٹنا  
جرسی سٹی میں پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی (جاری)

مجازہ جوابات	گاہکوں کے سوالات
<p>ہمارے پاس معمولی قیمت پر کافی سارے دوبارہ قابل استعمال تھیلے موجود ہیں۔</p> <p>ہمارے پاس آپ کے سامان کو پیک کرنے اور لے جانے کے لیے سامان کے خالی باکسز ہیں۔</p> <p>ہمارے پاس آپ کے استعمال کے لیے 100% قابل باز احیاء کاغذی تھیلے ہیں۔</p> <p>اگر آپ کے کاروبار نے کسی بھی قسم کا تھیلا فراہم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو، آپ کو نرمی سے گاہکوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے تھیلے نہیں ہیں۔ اگر اس بات کا امکان ہو کہ اس سے مسئلہ ہوسکتا ہے تو، آپ ہنگامی حالات کے لیے قانون کے مطابق تھیلوں کی تھوڑی مقدار رکھ سکتے ہیں۔</p>	<p>میں ضرورت کے مطابق دوبارہ قابل استعمال تھیلے نہیں لایا ہوں۔ میں کیا کروں؟</p>
<p>دوبارہ قابل استعمال تھیلے اعلیٰ معیار کے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہے لہذا ہمیں ان کے لیے معمولی سی قیمت لینی ہوگی۔</p>	<p>میں کیوں متبادل تھیلوں کے لیے ادائیگی کروں؟</p>
<p>اگر آپ پلاسٹک یا دھات کے کوڑے دان استعمال کر رہے ہیں تو آپ لائزر استعمال نہ کرے اور کوڑے دان کو خالی کرنے کے بعد دھو کر ماحول پر اپنے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ آپ بعض کچرے کو اخبار میں بھی لپیٹ سکتے ہیں یا پیکینگ، جیسے کہ بریڈ کے تھیلوں کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔</p> <p>زیادہ تر سپر مارکیٹس میں کوڑے دان کے لائزر بدستور فروخت ہوتے رہیں گے۔</p>	<p>اب میں کوڑے دان کے لائزر کے لیے کیا استعمال کروں؟</p>
<p>کچھ کتوں کی سہولیات والے پارکوں اور ریزروس میں، جانور کا فضلہ اٹھانے کے لیے پلاسٹک کے تھیلے دستیاب ہیں۔ پابندی کا اثر ان تھیلوں پر نہیں ہے۔ آپ زیادہ تر پالتو جانوروں کے سٹورز اور کچھ سپرمارکیٹس سے انہیں خرید بھی سکتے ہیں۔</p> <p>بصورت دیگر، آپ اخبار کا یا بریڈ کے تھیلوں کا دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔</p>	<p>میرے پالتو جانور کے ذریعہ اجابت کرنے کے بعد میں اسے اٹھانے کے لیے کیا استعمال کروں؟</p>

جرسی سٹی موسم بہار 2019 میں گاہکوں کو پابندی سے آگاہ اور تیار کرنے کے لیے ایک تعلیمی مہم چلائے گی، تاہم خرده فروشوں کو گاہکوں کے سوالات اور اعتراضات کا سامنا اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ رہنمائی اور علامات اس پتے پر سٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں [www.jerseycitynj.gov/bag-ban](http://www.jerseycitynj.gov/bag-ban)۔